

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے 17-23 مئی کو نیشنل پبلک ورکس ویک کے طور پر تسلیم کر لیا ہے

برامپٹن، آن (19 مئی 2020) – سٹی آف برامپٹن، ہماری کمیونٹی میں پبلک ورکس کے پیشہ ورانہ ماہرین کے اہم کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مورخہ 23 مئی تک نیشنل پبلک ورکس ویک (NPWW) کے طور پر منا رہا ہے۔

کورونا وائرس (کووڈ-19) کے خلاف سٹی کے رد عمل میں، اس کی پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم انتہائی اہم اور بنیادی کام کرنے میں صف اول میں شامل ہے، بشمول: ضروری سفر کے لیے سائینڈ واکس، سڑکوں اور پلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر اور دیکھ بھال، سگنل اور اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال، موسم بہار کی صفائی، برساتی نالوں کی صفائی اور سڑکوں کی جھاڑ پونچھ۔

گذشتہ سالوں میں، سٹی آف برامپٹن نے پورا ہفتہ چلنے والی متعدد دلچسپ اور دل موہ لینے والی سرگرمیوں کے ذریعے اس بارے میں عوامی آگاہی پیدا کر کے NPWW کو منایا کہ پبلک ورکس کی خدمات ہر روز ہماری کمیونٹی پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگرچہ اس سال لوگوں کی ذاتی طور پر شرکت کرنے کے لیے کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کی جا رہی، سٹی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ برامپٹن کو محفوظ، صاف اور چلتا ہوا رکھنے میں ان پیشہ ورانہ افراد کے اہم کردار کے متعلق مزید جانیں۔ مزید معلومات کے لیے پورے ہفتے کے دوران @CityBrampton کو ٹویٹر، فیس بک اور انسٹا گرام پر فالو کریں یا www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

اقتباسات

"طوفانی پانی کو منظم کرنے سے لے کر سڑکوں اور پلوں کی تعمیر تک، پبلک ورکس کے پیشہ ورانہ افراد پورا سال شہر کی دیکھ بھال میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس مرتبہ سالانہ تقریبات کے ذریعے ان کی خدمات کو نہیں منا سکتے، مگر میں برامپٹن کو ایک محفوظ اور صحت مندانہ شہر رکھنے میں ان کی انتھک محنت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"نیشنل پبلک ورکس ویک ہماری کمیونٹی میں معیار زندگی کو ممکن بنانے میں پبلک ورکس کے اہم کردار کی ایک خوشگوار یاد دہانی ہے۔ اس گروہ کی سخت محنت کی بدولت، ہمارے شہری اس مشکل وقت میں بحفاظت ضروری سفر کرنے، اپنی سائیکلوں کی سواری کرنے اور اپنے علاقوں میں پیدل چلنے کے قابل ہیں۔"

– پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ

"ہماری کمیونٹی کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے علاوہ، ہماری پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر بنانے کے ہمارے عزم پر بھی کام کرتی ہے۔ ہماری حالیہ طور پر شروع ہونے والی سائیکلوں کی عارضی لین جیسے فعال نقل و حمل کے پراجیکٹس کو ممکن بنانے سے لے کر برف ہٹانے کے مخصوص آلات کو استعمال کرنے اور ماحول میں گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے محنت طلب کام تک، ہمارے ماحول کی بہتری ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔"

– پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8: وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ

"پورے سال کے دوران، ہماری پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم برامپٹن کو محفوظ، صاف اور آگے بڑھتا ہوا رکھنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس نیشنل پبلک ورکس ویک کے موقع پر، میں اپنے پُر عزم اور صف اول کے عملے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو ہمارے لیے ایسی اہم اور بنیادی خدمات فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، جن پر ہماری کمیونٹی ہر روز انحصار کرتی ہے۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن